

Sixth Round of Foreign Office Consultations between India and Mexico

June 30, 2022

ہندوستان اور میکسیکو کے درمیان دفتر خارجہ سے متعلق مشاورت کا چھٹا دور

30 جون، 2022

ہندوستان اور میکسیکو کے درمیان دفتر خارجہ سے مشاورت کا چھٹا دور 29 جون 2022 کو میکسیکو سٹی میں منعقد ہوا۔ ہندوستانی فریق کی طرف سے بات چیت کی قیادت وزارت خارجہ میں سکریٹری (مشرق) جناب سوربھ کمار نے کی، اور میکسیکو کی طرف سے میکسیکو کی وزارت خارجہ کی نائب وزیر برائے امور محترمہ کارمین مورینو توسانو نے میکسیکو کے فریق کی قیادت کی۔

2- مشاورت میں سیاسی، تجارت اور سرمایہ کاری، صحت اور دواسازی، سائنس اور ٹیکنالوجی بشمول خلائی، ثقافت اور سیاحت، تعلیم، قونسلر، اور باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں سمیت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ کثیر الجہتی اور علاقائی مسائل بشمول اقوام متحدہ میں تعاون، پیسفاک الائنس اور ہندوستان کی آئندہ جی 20 صدارت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

3- اس دورے کے دوران اسرو اور میکسیکن اسپیس ایجنسی کے درمیان فصلوں کی نگرانی، خشک سالی کی تشخیص اور صلاحیت کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بیرونی خلا میں تعاون پر ایک مخصوص تعاون کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔

4- دونوں فریقین نے اعلیٰ سطح کے سیاسی تبادلے اور مشترکہ ادارہ جاتی میکانزم جیسے قونسلر ڈائلاگ، دو طرفہ اعلیٰ سطحی گروپ برائے تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون اور مشترکہ کمیشن میٹنگ جیسے دوطرفہ تعلقات کی رفتار کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

5- بات چیت دوستانہ اور گرمجوشی کے ماحول میں ہوئی۔ دونوں فریقین نے مشاورت کا اگلا دور نئی دہلی میں باہمی طور پر مناسب تاریخ پر منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔

29 جون، 2022

میکسیکو سٹی

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.